


65/2018

29.03.2019

Nemo for appellant. Mr. Ziaullah, DDA for the respondents present.

Due to non-appearance of the appellant on the last date notice was required to be issued to him for hearing today. The requisite notice was accordingly issued to him and a copy has been placed on record. Despite repeated calls upto 3.00 P.M today the appellant is not represented.

Dismissed for non-prosecution. File be
consigned to the record room.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Dismissed for non-prosecution. File be consigned to the record room.' and the word 'Member'.

Member


A smaller, stylized handwritten signature in black ink, written above the word 'Chairman'.

Chairman

ANNOUNCED
29.03.2019

29.08.2018


Counsel for the appellant and Mr. Riaz Ahmad Paindakheil, Assistant AG for the respondents present. Learned counsel for the appellant seeks adjournment to furnish rejoinder. Adjourned. To come up for rejoinder and arguments on 18.10.2018 before D.B.


(Ahmad Hassan)
Member


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

18.10.2018

Appellant absent. Learned counsel for the appellant absent. Mr. Riaz Ahmed Paindakheil learned Assistant AG for the respondents present. Adjourned. To come up for arguments on ~~03.10.2018~~ 18.10.2018 before D.B.


(Hussain Shah)
Member


(Ahmed Hassan)
Member

03.12.2018

Counsel for the appellant present. Mr. Ziaullah, Deputy District Attorney for the respondents present. Learned counsel for the appellant requested for adjournment. Adjourned. To come up for rejoinder and arguments on 23.01.2019 before D.B.


(Ahmad Hassan)
Member


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

23.01.2019


None present on behalf of the appellant. Mr. Muhammad Jan, Deputy District Attorney alongwith Mr. Hazrat Shah, Superintendent for the respondents present. Notice be issued to appellant and his counsel for attendance and rejoinder as well as arguments for 29.03.2019 before D.B.


(HUSSAIN SHAH)
MEMBER


(MUHAMMAD AMIN KHAN KUNDI)
MEMBER


17.04.2018

Appellant in person and Addl: AG present. None present on behalf of respondents department. Therefore, fresh notices be issued to the respondents department to attend the court positively. Written reply not submitted. Requested for adjournment. Adjourned. To come up for written reply/comments on **09.05.2018** before S.B.


Member

09.05.2018

The Tribunal is non functional due to retirement of the Honorable Chairman. Therefore, the case is adjourned. To come up for the same on **02.07.2018** before S.B.


Reader

02.07.2018

Appellant absent. Mr. Muhammad Jan, DDA alongwith Mr. Jaffar Ali, Assistant (Representative) of the respondents present. Written reply submitted. To come up for rejoinder and arguments on **29.08.2018** before D.B.


Member

13.02.2018

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments heard. It was contended by learned counsel for the appellant that the appellant was serving in Health Department as Malaria Supervisor. It was further contended that during service he was involved in criminal case under section 377 PPC. It was further contended that the appellant was relieved from service on the allegation of his involvement in criminal case vide order dated 05.10.2017. It was further contended that the appellant filed departmental appeal on 09.10.2017 but the same was not responded hence, the present service appeal on 18.01.2018. It was further contended by learned counsel for the appellant that neither proper inquiry was conducted nor opportunity of personal hearing and defence was provided to the appellant nor the aforesaid criminal trial has been concluded therefore, the impugned order is illegal and liable to be set-aside.

The contentions raised by learned counsel for the appellant need consideration. The appeal is admitted for regular hearing subject to deposit of security and process fee within 10 days, thereafter notice be issued to the respondents for written reply/comments for 02.04.2018 before S.B.

~~Appellant Deposited
Security & Process Fee~~


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

02.04.2018




None present on behalf of appellant. Mr. Kabir Ullah Khattak, Additional: AG for the respondent present. Written reply not submitted. Requested for adjournment. Adjourned. To come up for written reply/comments on 17.04.2018 before S.B.


(Ahmad Hassan)
Member

Form-A
FORM OF ORDERSHEET

Court of _____

Case No. 65 /2018

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	18/1/2018	<p>The appeal of Syed Shamsul Abas presented today by Syed Rehmat Ali Shah Advocate, may be entered in the Institution Register and put up to Worthy Chairman for proper order please.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p>
2-	19/01/18.	<p>This case is entrusted to S. Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>23/01/18.</u></p> <p style="text-align: right;"></p>
	23.01.2018	<p>Lawyers community is on strike, therefore the case is adjourned. To come up for preliminary hearing on 13.02.2018 Before S.B</p> <p style="text-align: right;"> (Muhammad Hamid Mughal) MEMBER</p>

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR**

Service Appeal No: 65 of 2018

Syed Shamsul Abas

VS Govt of Khyber Pakhtun khwa & others

INDEX

S. No	Description of Documents	Annexures	Pages
1	Appeal along with affidavit		1-6
2	Addresses of Parties		7
3	Application for status quo and affidavit		8-9
4	Copy of FIR, <i>Service Card</i>	A	10, 11
5	Copy of impugned order dated: 05-10-2017	B	12
6	Copy of departmental appeal	C	13
7	Wakalat nama		14

Appellant 

Through

Dated: **16/01/2018**


SYED REHMATALI SHAH
Advocate High Court, Peshawar.
0346-9467001

①

**BEFORE KHYBER PAKHTUN KHWA, SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR**

Service Appeal No. 65 /2018

SYED SHAMSUL ABAS, Malaria Supervisor, Office of District Health Officer, District Hangu.

Appellant

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Slary No. 58

Dated 18-1-2018

VERSUS

1. PROVINCE OF KHYBER PAKHTUNKHWA,

Through Chief Secretary,
Civil Secretariat, Peshawar.

2. Secretary to Govt. of Khyber Pakhtun Khwa,

Health Department,
Civil Secretariat, Peshawar

3. Director General Health Services,

Khyber Pakhtun Khwa, Peshawar.

4. District Health Officer,

Shaheed Farid Khan DHQ Hospital, District Hangu.

Respondents

SERVICE APPEAL UNDER SECTION-4 OF THE SERVICE TRIBUNAL
ACT, 1974 AGAINST THE INACTION OF RESPONDENT No. 3 WHO
FAILED TO DECIDE THE DEPARTMENTAL APPEAL AND AGAINST
THE ACTION OF THE RESPONDENT NO. 4 WHO ISSUED IMPUGNED
ORDER NO. 3517-22 DATED: 05-10-2017, VIDE WHICH THE
APPELLANT WAS RELIEVED FROM HIS DUTIES AND WAS
DIRECTED TO REPORT TO THE OFFICE OF DGHS, KHYBER
PAKHTUN KHWA AND ALSO ORDERED RECOVERY OF SALARY
FOR A PERIOD OF 3 MONTHS AND 8 DAYS FROM HIS
PENSION/SALARY.

Filed to day
8/1/17
Registrar

Prayer:-

- (i) On acceptance of the instant appeal the impugned order dated: 05-10-2017 in respect of relieving of petitioner from his duties and reporting to office DGHS may be set aside and the penalty of recovery of monthly salary (for a period of 3 months and 8 days)

may be declared illegal and void and the appellant may kindly be exonerated from the penalty.

(ii) Any action taken pursuant to impugned order 3517-22 Dated: 05-10-2017 be declared void and without lawful authority.

Respectfully Sheweth:

FACTS:-

Facts leading to the institution of the instant appeal are as under:-

1. That the appellant was working as Malaria Supervisor in the office of District Health Officer, District Hangu with great zeal and devotion and to the entire satisfaction of his superiors without any complaint.
(copy of service card is Attached)
2. That the appellant was charges in a false and frivolous case through FIR No. 610 dated: 20-06-2017. Later on the appellant was enlarged on concession of bail vide order dated: 05-07-2017 and till that date, the appellant was behind the bar.
{True Copy of FIR is Attached, marked as **Annex-A**}
3. That after releasing on bail, the appellant resumed his job but the respondent No. 4 orally stopped him from joining his duties till the decision of criminal case. It would be worth mentioning that the no formal order of suspension was issued against the appellant.
4. That the appellant after release on bail, performed his duties whole heartedly and also performed his services specially during Muharram days, but soon after performing duties in Muharram, the appellant was informed that an order in respect of his relieving from duties and to join services at DGHS, Peshawar has been passed and also an order of recovery of handsome amount from his salaries has been passed through impugned order dated: 05-10-2017. It would be of axiomatic importance that no inquiry what-so-ever has been conducted, nor any show cause notice was served neither any personal hearing was done and all that have been done in clandestine manner which act on the part of respondent is against the service laws.
{True copy of impugned order is attached, marked as **Annex-B**}
5. That the appellant filed the department representation/appeal before the Director General Health Services/respondent No. 3 on 09-10-2017 but to no avail.
{True Copy of departmental appeal is attached, marked as **Annex-C**}

6. That the appellant being dissatisfied and feeling aggrieved from the action and inaction of the respondents and having no other alternate, efficacious and adequate remedy except to file service appeal before this Hon'ble Court on the following grounds amongst others.

GROUND:-

- A. Because the impugned order of respondents dated: 05-10-2017 is against law, facts, hence liable to be set-aside.
- B. Because it has been incumbent upon the respondents to follow the mandatory provisions of service laws before initiating any action and impose any penalty any civil servant but in the present case, all that have been blatantly violated, hence the impugned order dated: 05-10-2017 is not tenable.
- C. Because no formal inquiry has been conducted nor any statement of allegations has been issued by the respondent, hence the impugned order is nullity in the eyes of law.
- D. Because issuing of impugned order without adopting proper criteria and codal requirements by the respondents is against the worthy ruling of the Hon'ble Superior Courts of Pakistan and therefore, the same are illegal practice and such practice adversely effects efficiency of incumbents and also reduces their confidence and faith in public. hence the impugned order referred above is liable to be un-held on this score also.
- E. Because the appellant had been made victim of discrimination, demerits, partiality and favoritism without any just and reasonable cause thereby offending the fundamental rights of the appellant as provided by the constitution of 1973, hence the impugned orders detailed above are liable to be set at naught.
- F. Because the respondents in utter disregard to the principles of the fairness, merit and transparency, passed the impugned order which is against the law, illegal, unlawful and void ab initio and liable to be turned down.

- G. Because the appellant is very hardworking and punctual in his duty, therefore, no complaint received by the Respondents against the appellant but the Respondents unlawfully and illegally proceeded against the appellant, which is against the law and fundamental rights of the appellant.
- H. Because the appellant was condemned unheard, his departmental appeal was not properly adjudicated in the manner as provided by the law. Further no chance of personal hearing was given to the present appellant in order to redress his grievances which shows the malafide of the Respondents, hence needs interference of this Hon'ble Tribunal.
- I. Because the present impugned order is illegal, illogical, against facts, without jurisdiction and suffering from material irregularity, hence the same is untenable and liable to be struck down.
- J. Because the Respondents erroneously exercised their powers against judicial principle, and have passed the impugned order and opened a new pandora box in clear violation of Service law, hence, the said impugned order is liable to be set aside, and the appellant may kindly be allowed to resume his services at District Hangu.
- K. The appellant crave for leave of the Hon'ble Tribunal to raise additional grounds at the time of arguments.


PRAYER:-

It is humbly submitted that on acceptance of the present appeal, this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

- i. Declare the impugned orders dated: 05-10-2017 of Respondent No. 4 as illegal, unlawful, without lawful authority and void ab initio.**
- ii. Exonerate the appellant from the penalty of "recovery of salary for 3 months and 8 days" and it may kindly be withdrawn in the best interest of justice.**
- iii. Direct the respondents to allow the appellant to perform his duties at District Hangu.**

(5)

- iv. Any further better relief may also kindly be granted in the circumstances of the appellant's case.


Appellant

Through

Dated: **16/01/2018**


SYED REHMAT ALI SHAH
Advocate High Court, Peshawar.

(6)

**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR**

Service Appeal No: _____ of 2018

Syed Shamsul Abas

VS Govt of Khyber Pakhtun khwa & others

AFFIDAVIT

I, Syed Shamsul Abas, Malaria Supervisor, District Hangu, do hereby solemnly affirm & declare that the contents of the attached appeal are true and correct to the best of my knowledge & belief & nothing has been concealed or withheld from this Honorable Court.

Identified by


Syed Rehmat Ali Shah
Advocate High Court.


Deponent
18 JAN 2018

ATTESTED



**BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL, KHYBER PAKHTUNKHWA,
PESHAWAR**

Service Appeal No: _____ of 2018

Syed Shamsul Abas

VS Govt of Khyber Pakhtun khwa & others

MEMO OF ADDRESSES

SYED SHAMSUL ABAS, Malaria Supervisor, Office of District Health Officer, District Hangu.

Appellant

VERSUS

1. PROVINCE OF KHYBER PAKHTUNKHWA,

Through Chief Secretary,
Civil Secretariat, Peshawar.

2. Secretary to Govt. of Khyber Pakhtun Khwa,
Health Department,
Civil Secretariat, Peshawar

3. Director General Health Services,
Khyber Pakhtun Khwa, Peshawar.

4. District Health Officer,
Shaheed Farid Khan DHQ Hospital, District Hangu.

Respondents

Through

Appellant

Dated: **16/01/2018**

SYED REHMAT ALI SHAH
Advocate High Court, Peshawar.

(3)

**BEFORE KHYBER PAKHTUN KHWA, SERVICE
TRIABUNAL, PESHAWAR**

Service Appeal No: _____ of 2018

Syed Shamsul Abas


VS Govt of Khyber Pakhtun khwa & others

Application for and on behalf of appellant/applicant for restraining the respondents from relieving the applicant from his post or take any adverse action against him and also to prohibit them from deductions from the salary of applicant/appellant and maintaining status quo.

Respectfully Sheweth:


1. That the appellant/applicant filed the accompanied service appeal in which no date of hearing is yet fixed.
2. That at the time disposal of this application, the appeal and its supportive documents may be considered as integral part of this application.
3. That the impugned order has been passed in blatant violation of service laws, so the applicant has a genuine prima facie case in his hand and he is sanguine in respect of his success.
4. That there is no legal cavil in passing of restraining order as prayed for and if the respondents are not restrained and status quo is not ordered, the accompanying appeal would become infructuous and meaningless.

It is, therefore, most respectfully prayed that the respondents may kindly be restrained from relieving the applicant or taking any adverse action against him and also restrained them from deductions from salary of applicant/appellant and status quo be maintained till final disposal of main service appeal.


Applicant/Appellant

Through

Dated: **26/01/2018**


SYED REHMAT ALI SHAH
Advocate High Court, Peshawar.

(9)

**BEFORE KHYBER PAKHTUN KHWA, SERVICE
TRIABUNAL, PESHAWAR**


Service Appeal No: _____ of 2018


Syed Shamsul Abas

VS Govt of Khyber Pakhtun khwa & others


AFFIDAVIT


I, Syed Shamsul Abas, Malaria Supervisor, District Hangu, do hereby solemnly affirm and declare upon oath that the contents of the application are true and correct to the best of my knowledge & belief and nothing has been concealed or withheld from this Honourable Tribunal.

Identified By: 
Syed Rehmat Ali Shah,
Advocate, High Court,
Peshawar.


Deponent
Syed Shamsul Abas
CNIC:

18 JAN 2018





Anx

(A)

F/Name	Ghulam Ibrahim
CNIC #	14101-0701875-1
D.O.B	01-03-1954
Qualification	FA
D.O.A	November, 1930
Blood Group	A+ve
Identification Mark	NI
R/ Address	Hangu
Contact	0333-0557920
I.C.E	0332-0542908

YMA

(A)

ابتدائی اطلاع رپورٹ

(۱)

(۵)

نمبر

۱۹۱۰۱-۶۷۸۴۱۷۸-۹

تاریخ (تاریخ) ابتدائی اطلاع نسبت مجرم قابل دست اندازی پولیس رپورٹ شدہ زیر دفعہ ۱۵۲ مجموعہ ضابطہ نوچاری ۵۳۳۵ ۸۵۷۶۸۳۵

منبع رینکو مختار سٹی

تاریخ و وقت وقوع ۲۵/۰۶/۱۷ وقت ۱۱:۲۰

تاریخ و وقت رپورٹ ۲۵/۰۶/۱۷ وقت ۱۷:۳۰ چاکبندی ۲۵/۰۶/۱۷ وقت ۱۸:۱۰

نام و سکونت اطلاع دہندہ و متغیث حاجی ولایت خان ولد صدیق خان پتھر تقریباً ۷۵ سال عمر آباد رینکو

تفصیلات مجرم (مذکورہ) حال اگر کچھ یا گیا ہو ۳۷۷

سائے وقوع فاصلہ تھانہ سے اور سمیت سول ہسپتال رینکو

نام و سکونت ملزم

کارروائی جو تفتیش کے متعلق کی گئی اگر اطلاع درج کرنے میں توقف ہو تو وجہ بیان کرو۔

تھانہ سے روانگی کی تاریخ و وقت

سرمدی مراد صاحب

اصیل ڈاڑھی

ابتدائی اطلاع نیچے درج کرو اس وقت ایک کمرہ میں مراد صاحب فریڈ

حال SHO تھانہ میں سے بدست کاٹل فریڈ ۱۸۸۵ فریڈ میں ہے فریڈ تھی دوران آسٹ نرسنگی

سنگو جی حاجی ولایت خان ولد صدیق خان پتھر تقریباً ۷۵ سال عمر آباد رینکو پتھر تقریباً ۷۵ سال عمر آباد رینکو

رینکو ولد فریڈ خان سنگو آباد رینکو پتھر تقریباً ۹/۱۵ سال بلدیہ یوکر ولایت خان یوں رپورٹ

کرتا ہے اس کے اس کے فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

فریڈ تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے فریڈ ام رینکو پتھر تقریباً ۱۱/۱۱ فریڈ میں ہے

Mt Ps Ctl
20-06-2017

Anx
IB
ATTACHED

Ex B

12

DISTRICT HEALTH OFFICER HANGU



PH # +92-925-623034-35-Fax:+92-925-623773 E-mail: edohealthhangu@gmail.com

Ref: # / / Dated Hangu the

OFFICE ORDER

In light of recommendations of enquiry report and consequent upon personnel hearing of Mr. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor BPS-12, the said official is hereby relieved from his govt. duties with immediate effect. His absence period (03 months 08 Days) may also be recovered from his pension/salary, while recommendations of enquiry committee "as attached" may also be implemented. The official concerned is directed to report to DGHS Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.


SD
DISTRICT HEALTH OFFICER
HANGU

No. 3517-22 PIF / dated

05/10/17

Copy forwarded to:-

1. Director General Health Services, Govt. of Khyber Pakhtunkhwa Peshawar for information and action please --
2. District Nazim Hangu for information please.
3. Deputy Commissioner Hangu for information please
4. Medical Superintendent Shaheed Farid Khan DHQ Hospital Hangu for information please.
5. Enquiry Committee for information with reference to their recommendations as quoted above.
6. Mr. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor for information and compliance.


DISTRICT HEALTH OFFICER
HANGU

Ann. C

Received
10/10/17

ATTESTED

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بمضور جناب ڈائریکٹر جنرل صاحب، محکمہ صحت خیبر پختونخوا، پشاور

اپیل

برخلاف غیر قانونی کٹوتی از ماہوار تنخواہ (تین ماہ، آٹھ دن) بلا وجہ

از ماہوار تنخواہ سائل/ملیریا سپروائزر D.H.Q ہسپتال ضلع ہنگو

جناب عالی گذارش اینکے

سائل بطور ملیریا سپروائزر سال 1991 سے محکمہ صحت ضلع ہنگو کے مقام D.H.Q ہسپتال ہنگو میں ملازمت کر رہا ہوں۔
 (۱) یہ کہ مورخہ 20-06-2017 کو سائل کے خلاف ایک بے بنیاد فی آرڈر FIR تھانہ شی ہنگو میں درج ہو کر سائل اپنی گرفتاری کے بعد عدالت سے 05-07-2017 کو رہا ہوا۔ انشاء اللہ مقدمہ کی باقاعدہ سماعت کی صورت میں باعزت بری ہو جاؤنگا۔
 (۲) یہ کہ سائل نے اپنی رہائی کی فوری بعد ہسپتال جا کر اپنی ڈیوٹی شروع کرنی چاہی، تاہم D.H.O صاحب ہنگو نے سائل کو ذاتی طور پر بلا کر کہا کہ تم فی الحال (فیصلہ عدالت تک) ملازمت کیلئے ہسپتال مت آؤ، البتہ گھر پر موجود رہو، کسی بھی وقت تمہیں ڈیوٹی کیلئے بلا سکتے ہیں۔ اور ماہوار تنخواہ وصول کیا کرو۔

یہ کہ سائل گذشتہ قریب دو ماہ سے متواتر بائیومیٹرک مشین پر روزانہ حاضری بھی لگا رہا ہوں۔
 (۳) یہ کہ سائل کو عرصہ قریب تین ماہ بعد، D.H.O صاحب ہنگو نے محرم الحرام میں ڈیوٹی سرانجام دینے کیلئے بلایا، سائل نے ڈیوٹی سرانجام دی۔ جسکے بعد سائل کو علم ہوا، کہ سائل کی تنخواہ سے کل مبلغ 96000/- روپے کی کٹوتی کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ سائل کو اس تنخواہ کٹوتی کا کوئی حکم نامہ یا سرکاری چھٹی حوالہ نہیں کی گئی ہے۔

یہ کہ سائل کو اب سرکاری ملازمت بمقام D.H.Q ہنگو سے Relieved کیا گیا ہے۔
 (۵) یہ کہ سائل کا مقدمہ عدالت میں زیر تجویز ہے، اور ابھی تک سائل پر الزام ہے، سائل پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔
 (۶) یہ کہ سائل عرصہ 25 سال سے زائد محکمہ صحت میں خدمات سرانجام دے رہا ہوں۔

یہ کہ بال بچے دار ہوں، کرایہ کے مکان میں سکونت پذیر ہوں، اور تین سکول جانے والے بچوں سمیت اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کا واحد کفیل ہوں۔
 (۸) یہ کہ سائل کو کوئی Suspension Letter یا کسی بھی صورت کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے، اور نہ ہی کسی انکوائری میں بلایا ہے، اور نہ ہی کسی انکوائری رپورٹ کی نقل فراہم کی گئی ہے۔

یہ کہ سائل کو بغیر کسی گناہ/جرم ثابت کئے، اتنی بڑی رقم سے محروم کیا گیا، اور ساتھ ہی مقامی علاقہ سے بیدخل اور اہلیان علاقہ میں بے عزت اور بدنام کیا گیا۔ جسکی وجہ سے سائل اور سائل کے اہل خانہ انتہائی ذہنی کوفت/مشکلات میں مبتلا ہیں۔

یہ کہ سائل کی بے گناہی انشاء اللہ عدالت میں ثابت ہو جائیگی۔
 (۱۱) استدعا ہے۔ کہ سائل کی تنخواہ سے بلا وجہ اور غیر قانونی تنخواہ کٹوتی روکنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ مورخہ 9-Oct-17

سائل/ملیریا سپروائزر

سید شمس العباس ولد سید غلام ابراہیم سکٹہ گنجانہ کٹھکوال کوہاٹ

14101-0781578-1 رابطہ نمبر 0332-9809001

Annex. D

Dated 9-10-2017

C. and A.

قیمت
50 روپے



16246

ایڈوکیٹ: سید رحمت علی
بار کونسل ایسوسی ایشن نمبر: 612-3451
رابطہ نمبر: 03469467001

پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ

بعدالت جناب: سید مسعود حسین شاہ

دعوی:	
علت نمبر:	
مورخہ:	
جرم:	
تھانہ:	

منجانب: سید مسعود حسین شاہ

شعبہ: بینام ڈورنٹ سید رحمت علی

باعث تحریر آگہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کاروائی متعلقہ
آن مقام میں سید مسعود حسین شاہ کیلئے سید رحمت علی کو وکیل مقرر
کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو
راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف دینے جواب دعوی اقبال دعوی اور درخواست از ہر قسم کی تصدیق
زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز
دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی
کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب
مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ باختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پر داختم منظور و قبول ہوگا
دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا حد سے
باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کریں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے

المرقوم: 2018-01-18

العبد سید مسعود حسین شاہ العبد
مقام پشاور کے لیے منظور ہے۔

نوٹ: اس وکالت نامہ کی فونو کاپی ناقابل قبول ہوگی۔

سید مسعود حسین شاہ
14101-0781578-1

BEFORE THE HONOURABLE KHYBER PAKHTUN KHAWA SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

Service Appeal No 65 2018

SYED SHAMSUL ABAS Malaria supervisor, Office of the District health officer District Hangu

(Appellant)

VERSUS

1. Province of Khyber Pakhtunkhawa, through Chief Secretary Civil Secretariat , Peshawar.
2. Secretary to the Govt of Khyber PakhtunKhawa Health Department Khyber Pakhtukhawa Peshawar.
3. Director General, Health Services, Khyber Pakhtunkhawa, Peshawar.
4. District Health Officer Hangu.

(Respondents)

Preliminary Objections:

1. That the present appeal is beyond the jurisdiction of this honourable Tribunal.
2. That the appellant has concealed material facts from the honourable Tribunal.
3. That the appellant has not come to this tribunal with clean hands.
4. That the appellant has got no case of action.
5. That the appellant has no locus standi for this case.
6. That the present appellant is not maintainable in its present form.

PARAWISE COMMENTS ON BEHALF OF RESPONDENTS 1-4

RESPECTFULLY SHEWETH,

1. Admitted to the extent that the appellant was working as Malaria Supervisor in office of the District Health Officer Hangu.
2. Pertain to record.
3. Incorrect as stated, that the appellant has been suspended vide DHO office letter No 3605-08/Inay/dated 21.6.2017 (Annexed A)
4. In correct, proper departmental enquiry has been conducted and the accused has been called for personnel hearing "enquiry (annexed B)" The accused was also found absent from duties as pointed out through biometric record with effect from 21-6-2017 to 19-09-2017. (Annexed C).
5. Incorrect, response in connection with department appeal has already been made vide this office letter no. 4288/enquiry dated 07/11/2017 "Annexed D"
6. Not concern. Hence no comments.

GROUNDS

- A. In correct, the appellant has been treated in accordance with law.
- B. In correct, as explained in Para 4 of fact.
- C. In correct, that proper and impartial enquiry has been conducted
- D. In correct, that the order issued with proper criteria and codal requirements.
- E. In correct, as explained in Para D.
- F. In correct the appellant was treated in accordance with law.
- G. In correct, that the appellant was preceded with E& D Rules 2011.
- H. In correct that proper enquiry has been conduted while reply has also been made against departmental appeal.
- I. In correct, as explained in Para D.
- J. In correct all the proceedings conducted against the appellant were according to the civil services E&D rules 2011. Further, he was awarded punishment in light of recommendation of enquiry committee.
- K. Not concern. Hence no comments.

Some other grounds may be adduced at the time of hearing.

It is therefore humbly prayed that the instant appeal may graciously be dismissed with cost.

No. 2337/PF Dated 8/5/18
Enclosure _____



**District Health Officer
Hangu
(Respondent no.4)**



**Director General Health Services
Khyber Pakhtunkhwa Peshawar
(Respondent no.3)**



**Secretary Health Govt: of Khyber Pakhtunkhwa
Peshawar
(Respondent no.2)**

HEALTH DEPARTMENT

OFFICE OF THE DISTRICT HEALTH OFFICER DISTRICT HANGU

Ref: # 3605-08/Imran Dated Hangu the 21/6/17



OFFICER ORDER

Mr Shamsul Abbas Malaria Supervisor is hereby suspended from his duty with immediate effect in light of complaint lodged / FIR lodged by Haji Wilayat Khan S/O Haider Khan age 70 years Umar Abad Hangu regarding sexual intercourse / sodomy with his grandson named Rehmat Ullah S/O Nawab Khan aged 12 years in OPD Block DHQ Hospital Hangu. Subsequently the following inquiry committee is hereby constituted in order to conduct fact finding enquiry, probe into the matter while submit detail report within 07 days positively.


1. Dr Syed Muhammad Samin DHO Hangu.
2. Dr Imran Khan EPI Coordinator Hangu.

SD
DISTRICT HEALTH OFFICER
HANGU

Ref: # 3605-08/Imran Dated Hangu the 21/6/17

Copy to

1. District Nazim Hangu for information please.
2. Deputy Commissioner Hangu for information please.
3. Medical Superintendent Shaheed Farid Khan Hospital DHQ Hospital Hangu for information please.
4. Enquiry Committee for information and compliance.
5. Haji Wilayat Khan S/O Hider Khan for information with the request to liaise with enquiry committee.
6. Shams UI Abbas Malaria Supervisor DHQ Hospital Hangu for information with the instruction to appear before the enquiry committee


DISTRICT HEALTH OFFICER
HANGU

ENQUIRY REPORT

Incompliance to District Health Officer Hangu office Order no. 3605-08 dated 21/06/2017 regarding the enquiry in light of complaint lodged by Haji Wilyat Khan s/o Haider Khan age 70 years Umar Abad Hangu regarding sexual intercourse/sodomy with his grandson named Rehmat Ullah s/o Nawab Khan aged 12 years by Mr. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor DHQ Hospital Hangu

SCOPE OF THE ENQUIRY

I the undersigned was directed to probe into the matter precisely and submit the report.

COMPLAINT

Complaint lodged by Haji Wilyat Khan s/o Haider Khan age 70 years Umar Abad Hangu regarding sexual intercourse/sodomy with his grandson named Rehmat Ullah s/o Nawab Khan aged 12 years by Mr. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor DHQ Hospital Hangu

DISCUSSION/WRTITTEN STATEMENT

In view of the self Explanatory statements of

1. Rehmat Ullah s/o Nawab Khan "Victim" (Annexed-I)
2. Haji Wilyat Khan s/o Hider Khan (Annexed-II)
3. Hafiz Salman s/o Muhammad Khan (Annexed-III)
4. Mufti Muhammad Imran s/o Muhammad Afzal (Annexed-IV)
5. Zakria s/o Nawab Khan (Annexed-V)
6. Shamsul Abbas Malaria Supervisor (Annexed-VI)
7. Dr. Fazal Mula MS Shaheed Farid Khan DHQ Hospital Hangu, Mr. Gulap Khan and Mr. Syed Ahmed Junior Clerks (Annexed-VII)
8. OPD Register and Biometric Attendance Sheet (Annexed-VIII)
9. FIR (Annexed-IX)
10. Medical Report (Annexed-X)
11. Photo Copy of Peshawar High Court Judgment "Annexed-XI)
12. Photo copy of Previous Enquiry Report "Annexed-XII)
13. Thoroughly verbal discussion with MS DHQ Hospital Hangu and Mr. Noor Khan Driver, Mr. Ayaz ASI City Police Station Hangu

The following are concluded.


CONCLUSION


1. The sexual/sodomy attempt by Mr. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor on Rehmat Ullah s/o Nawab Khan aged 12 years is confirmed from the written self explanatory statement of Hafiz Suliman s/o Muhammad Khan and Mufti Muhammad Imran s/o Muhamad Afzal as Shamsul Abbas, his brother named Shah Ali Asgher and his friend Noor Khan shown excused to the said victim and offered amount in order to do settlement and avoid FIR, which shows the consent of sexual assault of Shams Ul Abbas.
2. Mr. Ayaz Khan ASI City Police Station Hangu stated verbally that he collected dirty cloths of said victim and sent for DNA test for confirming of sodomy.
3. Medical Report shows that no semen was seen in the rectum in time of examination; however, for rectum examination, proctoscopy required which is impossible without general anesthesia while no such process has been conducted for rectum examination, so the medical report also needs attention.
4. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor admitted in his own written statement that the victim concerned approached him twice and demanded for money, which shows that they both have some relation before.

5. Victim Rehmat Ullah was asked by Shams Ul Abbas to come inside OPD Room and he gave him two OPD chits and also asked him to come back to OPD room for giving him bandages which indicates the intention of Shams Ul Abbas.
6. Noor Khan Driver DHO Office Hangu verbally confirmed before enquiry committee that he tried to resolve the said matter with the victim's family being friend of Mr. Shams Ul Abbas and his brother Shah Ali Asgher, however, the said driver refused to give written statement.
7. Shamsul Abbas issued two numbers of OPD chits vide OPD no. 7351 dated 20-6-2017, second OPD no. 7368 dated 20-06-2017 which is fake number as crossed checked with main OPD register and Eye OPD register, as main OPD register shows name of Ms Hayat Bibi while Eye OPD shows name of Rehmat Ullah, which illustrates that Mr. Shamsul Abbas issued multiple OPD chits on same OPD number.
8. All hospital staff are not agree to give statements in favor of Mr. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor nor they authenticate his ethics, while verbally all employees are confirming that Shamsul Abbas is habitual of such practice.
9. Shamsul Abbas was performing duties in OPD without official order of MS DHQ Hospital Hangu as his name was not found in duty Rota of June, 2017, so, MS DHQ Hospital Hangu didn't provide duty Rota and verbally stated that he doesn't know the real place of duty of Shams Ul Abbas.

FINDINGS/RECOMMENDATION

1. Before imposing the penalty, the department authorities are requested to please call Mr. Shams Ul Abbas for personnel hearing.
2. Mr. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor violated the decorum of hospital and his practice is against medical ethics, so, he must not be permitted to resume his duties in the hospital.
3. Medial Report has not been conducted as per the protocol of MLC, thus, no decision may be taken in light of current Medical Report while enquiry may also conducted against the concerned Medical Officer.
4. Clear embezzlement was found in issuance of OPD chits, so, an appropriate special audit of OPD charges of previous 3 months may be made through anti corruption department.
5. MS DHQ Hospital Hangu may also be asked to be vigilant in performance of his duties while give close attention to the performance of entire staff duties in order to circumvent such practice inside the premises of hospital and save the decorum of hospital and medical ethics.
6. Shams Ul Abbas Malaria Supervisor must be dealt in light of Honorable Peshawar High Court judgment no. 4963/Judl dated 9-12-2014 "attached" clause Para. 8 wherein it was announced that the category of deterrent punishment, so that, in future no one holding the post of the nature and in light of enquiry recommendations already conducted against Mr. Gul Zali Ex-Medical Technician "enquiry attached".


Dr. Imfan Khan
Coordinator EPI, DHO Office Hangu


Dr. Syed Muhammad Samin
District Health Officer Hangu

میں صلیبی محمد اللہ ولد نواب خان سکندر پور آباد

صحت پر بیان رکھوں کہ میں کل مورخ

20/6/2017 کو اپنے دادا میں گئے صحت پر آنا۔

ان کا صحت پر بیماری تھا۔ دارا کے انگلیں
نواب گئی۔ اور دیگر بیماری بھی گئی۔ جب

میں OPD پر گئے تھے تب دیکھا گیا۔ تو وہاں پر

ایک نندہ بھیجا ہوا تھا۔ جس نے مجھے اشارہ

کرنے شروع اندر ان کو کیا۔ میں نے سوچا

شاید پرے دینے کا کیا ہوں۔

پھر اس نے مجھے کہا پرے دے کے والی

اور ایک دیکھ دینی تھی۔

وہ مجھے بیانہ صحت پر ان کے طرف دیکھ

اور میرا صحت پر اپنے صحت پر سے نندہ رہا۔

پھر مجھے ایک طرف دیکھنے کے لئے گیا۔ اور

میرا مشورہ انکارنا شروع کر دیا۔ میں

نے بچانے کے کو مشورہ کی لیکن میں نے

نہ کر سکتا۔ مجھے دیکھنے سے بکرا۔

گھوڑے دیر کے بعد جمعے گھوڑا، اور

کہاں کہ گھوڑے دیر بعد دیر اجاڑے۔

اور اپنے ساتھ کچھ بھی لے آؤ۔

میں وہاں سے بھاگ کر آیا۔ اور

دادا نے کہا۔ اس نے مجھے یہ بھی

تسلیا کہ گھوڑے دیر بعد والیں آ جاؤ۔

میں اب کہہ بیٹے بھی دو ٹنگا اور تسلی

کہی اپنے ساتھ لے آؤ۔

اور یہ بھی کہ اس دفعہ میں نے اندر

نہیں کیا ہم آؤنگا۔

میں نے پوچھی میں FIR درج کیا ہے۔ اور

میرا نام اور شناخت کا عالم کچھ

الفاظ کا ہے۔

الحمد للہ والذو اب خان



صدر خان
میں مسمی ولایت خان ولد ~~محمد~~ سکنہ عمر آباد منگلو پہ بیان کر دیا ہوا
کہ میں کل غورہ 20/6/17 کو ہسپتال آیا اور میرے ساتھ میرا لوزر

رہت احمد دل لوزر۔ خان ساتھ تھا ہسپتال میں آنے کا مقصد میں بیمار
تھا میرا آنکھیں مزاج تھی اور دیگر بیماری تھی تھی میں نے اپنے لوزر سے
کو 20 روز دے دیں اور OPD کی پورے بنانے کے لئے بھیجا کافی
دیر گزارنے کے بعد جب میرا لوزر واپس آیا تو مجھے کہتے لگانے جمع

اس OPD دہرے بنانے والے نے بلدیات اور وہ واپس چلے گیا میں
ادھر انتظار کر رہا تھا کافی وقت گزارنے کے بعد جب وہ واپس نہ آیا
تو میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا تقریباً ~~دو~~ ایک گھنٹہ گزارنے
کے بعد میں اپنے بچے کو لے کر آیا اور پھر میں MS دفتر چلے گیا MS صدر

کو بتایا کہ میرا لوزر تم سے ملے گا MS صاحب نے کہا کہ آپ لوہے کو
ریپورٹ کر لو پھر میں ادھر ادھر گوٹھا رہا کہ میرا لوزر وہاں
آیا اور وہ رہا تھا کہ میرے ساتھ اس OPD والے (شمس العباس)
نے بد فعلی کی پھر میں نے ہسپتال میں پوچھنے والے کو بتایا کہ اس طرح
واقع ہوا میرے ساتھ فلم ہوا ہسپتال میں موجود پولیس والوں

نے صحیح لیا کہ یہ ظہار کام نہیں ہے آپ نے کھانہ چلے جاؤ پھر میں
کھانہ چلے گیا وہاں پر SHO صاحب گشت پر جا رہے تھے

تو میں نے اسے میں صاحب کو بتایا کہ اس طرح واقف
ہوا تو پھر SHO صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے اور
ہم نے اس بندہ کی نشاندہی کی پھر پولیس والوں نے
اس مطلوب بندے کو اٹھایا جیل میں بند کیا۔



ولایت خان صدر خان

۱۶۱۰۱-۶۷۸۴۱۷۸-۹

سکنہ گلبر آباد ٹنگو

میں سے شہداء سلمان ولد فرید حسن خان صاحب شہداء
کارڈ نمبر 1-8542882-14101 کے اقرار کرتا ہوں کہ

میں نے 20 جون کو اپنے دادا نے فون کیا کہ آپ کے

گھر میں اس طرح واقعہ ہوا ہے جس کے FIR

درج کرنا ہے جس میں وہاں کے شہداء

نور خان اور اس کے بھائی شاہ علی اور

دونوں وہاں پر موجود تھے اور وہ بار بار

میں نے کہہ کر کہ جتنے رقم سنا جائے گا

کو ملے گا اس کے لئے تو میں نے کہا کہ ہم

کرتا ہے جس کے FIR درج کرنا ہے جس میں

اور وہ بار بار اصرار کرتے تھے کہ FIR

درج نہ کروائیں بلکہ اس کے لئے انکار کیا اور وہ

کہہ رہے تھے کہ جس کے لئے اس سے غلطی ہو

سوئی آپ ان کو صاف کر دیں اور ہم سے

صلح کر لیں مگر ہم نہیں مان رہے تھے مگر ہم نے

مفتی عمران ملک کو بلد پائلہ میں ساہیو FIR

دہ ج میں سو ریا لیا لیا اور وہ دیکھ گیا اور ساہیو

دہ ج میں لیسب الرحمان بھی ساہیو تھا سو FIR

دہ ج سو گیا

محمد سلمان ولد موصی خان

14101-8542882-1

مکتہ عمران آباد منگلو

0333-9181366



میں مہمسی منی محمد عمران ولد محمد افضل شہناہی کارڈ نمبر 14101-0398-444

یہ اقرار کرتا ہوں کہ 2017-2020 جون کو جو واقعہ سول ہسپتال

ہوا تھا اس بچے نے اپنے دادا سے شکایت کر کے وہ تھا نہ مہمسی منی

وہاں FIR نہیں ہو رہی تھی تو میں بندہ محمد عمران

تھا نہ پہنچ کر خود دیکھ لیا کہ مجرم کے صلح کیلئے یہ نوٹ آئے

تھے۔ نورخان اور شمس العباس کا بھائی

شاہ علی اصغر آئے تھے

بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی ہم نے صلح کرنے سے انکار کیا

آئے والے لوگوں کے آئے گا وہ سے FIR لکھنے میں بھی کافی

دشواری تھی جو کہ صاف انکار کرنے کے بعد رقم ہوئی ہے

محمد عمران ولد محمد افضل



مکافوں زنگی باندہ صہلو

14101-0398444-1

0336-9587326

میں ڈاکٹر رہا۔ یہ بیان قسم میں کرتا ہوں۔
 کہ میرے گواہی کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی میں بھی
 قسم نے اس کو ایچ آر کے ایڈ جی بی کے اپنے دادا
 کے ساتھ اور کچھ عرصے اس کے عزیزوں کے ساتھ
 رہا۔ جب دادا نے مجھے کال کیا اور میں
 ہسپتال گیا۔ میں ہم FIR درج کرنے کے بارے
 میں۔ تو اس نے (شخص) نے مجھے کہا اور میرے
 ساتھ اس کا گواہی ~~کے ساتھ~~ آیا اور
 اس کے ساتھ شخص سے خدائی میں اب اس کے
 حقائق رہے۔ مگر مجھے وہ OPD کے طرف
 لے گئے وہاں انہوں نے منشی شروع کر دی اور
 کہا کہ شخص سے خدائی میں اب لوگ
 شخص کو حقائق رہے۔ میں نے حقائق کے
 انکار کر دیا۔
 مگر فوراً ان کے ہاتھ پکڑے گئے۔ اور کہا
 کہ یہ جیلر کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب کو میں
 دینگے اب لوگ شخص کو پھرتے رہیں۔ اور
 شخص کو حقائق رہے اس کے خدائی میں

کو دس سال لہذا میری عمر اور رشتہ دار بھی ایگزٹ۔ اس میں
صاف و سلیس اور وقتی طور پر بھی گئی۔ صحت
اکٹھا نہیں ہے۔ کہ ہم اس کو صاف نہیں کرتے
اور جو ہم نے FIR درج کر دیا۔

میں نے کھائی ہوئے اتفاق حاصل ہوا ہے۔

شکر ہے۔

محمد ذاکر - (کھائی ہوئے)



Signature

یہ سب سب اعلیٰ عدالت میں یہ اقرار کرنا ہوتا ہے کہ
 جو بھی لکھوں گا سچ لکھوں گا 3 عدالت میں پہلے
 یہ لکھا جو آیا تھا تقریباً 10 بجے آیا جو عدالت میں لکھا
 اور اس لکھنے کے بعد 3 دن بعد عدالت میں آیا تقریباً 10 بجے چھ پرپیسوں
 کا مطالبہ کیا جب عدالت میں آئے انکار کیا تو اس لکھنے کے
 بعد 5 دن بعد عدالت میں آئے کہ یہ آپ کے حق میں
 لکھا نہیں ہو گا میں اس صاف انکار اور عدالت میں اس
 کے بعد اس لکھنے کے بعد 5 دن بعد عدالت میں آئے کہ یہ
 الزام ہے کہ 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اس کے بعد عدالت میں
 آئے کہ 5 لاکھ روپے دو ہم اپنا بیان دے سکتے
 ہیں تو میں نے انکار کیا کیونکہ جو کلام میں نے لکھا
 نہیں تو اقرار کیسے کرتا

محمد الستان

2012-6-29



Government of Khyber Pakhtunkhwa, Health Department

Attendance Status ReportFrom 21-06-2017 To 19-09-2017

Name: shamsul abbas, Father Name: ghulam ibrahim
 Designation: Malaria Supervisor BPS: 12, Department: OPD,
 Biometric: 67195

1.	Wed, 21 June 2017					00:00:00.000000	Off
2.	Thu, 22 June 2017					00:00:00.000000	Off
3.	Fri, 23 June 2017					00:00:00.000000	Off
4.	Sat, 24 June 2017					00:00:00.000000	Off
5.	Sun, 25 June 2017					00:00:00.000000	Off
6.	Mon, 26 June 2017					00:00:00.000000	Off
7.	Tue, 27 June 2017					00:00:00.000000	Off
8.	Wed, 28 June 2017					00:00:00.000000	Off
9.	Thu, 29 June 2017					00:00:00.000000	Off
10.	Fri, 30 June 2017					00:00:00.000000	Off
11.	Sat, 01 July 2017					00:00:00.000000	Off
12.	Sun, 02 July 2017					00:00:00.000000	Off
13.	Mon, 03 July 2017					00:00:00.000000	Off
14.	Tue, 04 July 2017					00:00:00.000000	Off
15.	Wed, 05 July 2017					00:00:00.000000	Off
16.	Thu, 06 July 2017					00:00:00.000000	Off
17.	Fri, 07 July 2017					00:00:00.000000	Off
18.	Sat, 08 July 2017					00:00:00.000000	Off
19.	Sun, 09 July 2017					00:00:00.000000	Off
20.	Mon, 10 July 2017					00:00:00.000000	Off
21.	Tue, 11 July 2017					00:00:00.000000	Off
22.	Wed, 12 July 2017					00:00:00.000000	Off
23.	Thu, 13 July 2017					00:00:00.000000	Off
24.	Fri, 14 July 2017					00:00:00.000000	Off
25.	Sat, 15 July 2017					00:00:00.000000	Off
26.	Sun, 16 July 2017					00:00:00.000000	Off
27.	Mon, 17 July 2017					00:00:00.000000	Off
28.	Tue, 18 July 2017					00:00:00.000000	Off
29.	Wed, 19 July 2017					00:00:00.000000	Off
30.	Thu, 20 July 2017					00:00:00.000000	Off
31.	Fri, 21 July 2017					00:00:00.000000	Off
32.	Sat, 22 July 2017					00:00:00.000000	Off
33.	Sun, 23 July 2017					00:00:00.000000	Off
34.	Mon, 24 July 2017					00:00:00.000000	Off
35.	Tue, 25 July 2017					00:00:00.000000	Off
36.	Wed, 26 July 2017					00:00:00.000000	Off
37.	Thu, 27 July 2017					00:00:00.000000	Off
38.	Fri, 28 July 2017					00:00:00.000000	Off
39.	Sat, 29 July 2017					00:00:00.000000	Off
40.	Sun, 30 July 2017					00:00:00.000000	Off
41.	Mon, 31 July 2017					00:00:00.000000	Off
42.	Tue, 01 August 2017					00:00:00.000000	Off
43.	Wed, 02 August 2017					00:00:00.000000	Off

Employee_Attendance_Report

Employee Name: Ghulam Abbas, Father Name: Ghulam Ibrahim
 Designation: Malaria Supervisor BPS: 12, Department: OPD.
 Phone No: 67195

Sl. No.	Date	Day	Attendance	Remarks	Time In	Time Out	Remarks
44.	Thu, 03 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
45.	Fri, 04 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
46.	Sat, 05 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
47.	Sun, 06 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
48.	Mon, 07 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
49.	Tue, 08 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
50.	Wed, 09 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
51.	Thu, 10 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
52.	Fri, 11 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
53.	Sat, 12 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
54.	Sun, 13 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
55.	Mon, 14 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
56.	Tue, 15 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
57.	Wed, 16 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
58.	Thu, 17 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
59.	Fri, 18 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
60.	Sat, 19 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
61.	Sun, 20 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
62.	Mon, 21 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
63.	Tue, 22 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
64.	Wed, 23 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
65.	Thu, 24 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
66.	Fri, 25 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
67.	Sat, 26 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
68.	Sun, 27 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
69.	Mon, 28 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
70.	Tue, 29 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
71.	Wed, 30 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
72.	Thu, 31 August 2017		-		00:00:00.000000		Off
73.	Fri, 01 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
74.	Sat, 02 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
75.	Sun, 03 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
76.	Mon, 04 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
77.	Tue, 05 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
78.	Wed, 06 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
79.	Thu, 07 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
80.	Fri, 08 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
81.	Sat, 09 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
82.	Sun, 10 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
83.	Mon, 11 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
84.	Tue, 12 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
85.	Wed, 13 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
86.	Thu, 14 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
87.	Fri, 15 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
88.	Sat, 16 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
89.	Sun, 17 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
90.	Mon, 18 September 2017		-		00:00:00.000000		Off
91.	Tue, 19 September 2017		-		00:00:00.000000		Off

OFFICE OF THE DISTRICT HEALTH OFFICER HANGU

PH # +92-925-621508-35-Fax #+92-925-623773 E-mail: edohealthhangu@gmail.com,

Ref: # 4288 / Enquiry Dated Hangu the 7/11/17



To,

The Director General Health Services,
Govt: of Khyber Paktunkhwa Peshawar

Subject: **Application**
Dear Sir,

With reference to your good office letter no. 17447/AE-VI dated 30/10/2017, I have the honor to state that Mr. Shams Ul Abbas PHC Tech MP has been suspended vide this office order no. 3605-08/enquiry dated 21/06/2017 "as attached". However, the said official found absent with effect from 21/06/2017 till 19-09-2017, (03 months 8 days.) biometric attendance attached for ready reference.


**DISTRICT HEALTH OFFICER
HANGU**

DIRECTORATE GENERAL HEALTH SERVICES
KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR.



Office Ph# 091 - 9210269. Exchange# 091 - 9210187, 091 - 9210196.

Fax #091 - 9210230

All communications should be addressed to the Director General Health Services Peshawar and not to any official by name.

No. 17447 / AE-VI.


Dated 30/10/2017

To

The District Health Officer,
Hangu.

Subject: - **APPLICATION.**

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose an application in respect of Mr. Shamsul Abbas PHC Technician (MP) working under your control which is self explanatory for furnishing your comments urgently so as to proceed further.


DIRECTOR GENERAL HEALTH SERVICES
KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محضور جناب ڈائریکٹر جنرل صاحب، محکمہ صحت خیبر پختونخوا، پشاور

اپیل

برخلاف غیر قانونی کٹوتی از ماہوار تنخواہ (تین ماہ، آٹھ دن) بلا وجہ

از ماہوار تنخواہ سائل/ملیر یا سپر ڈائریکٹر D.H.Q. ہسپتال ضلع ہنگو

جناب عالی گذارش اینکے

سائل بلنور ملیر یا سپر ڈائریکٹر سال 1991 سے محکمہ صحت ضلع ہنگو کے مقام D.H.Q. ہسپتال ہنگو میں ملازمت کر رہا ہوں۔

یہ کہ مورخہ 20-06-2017 کو سائل کے خلاف ایک بے بنیاد ڈی بیروغ FIR تھانہ شی ہنگو میں درج ہو کر سائل اپنی گرفتاری کے بعد

عدالت سے 05-07-2017 کو رہا ہوا۔ انشاء اللہ مقدمہ کی باقاعدہ سماعت کی صورت میں باعزت بری ہو جاؤنگا۔

یہ کہ سائل نے اپنی رہائی کی فوری بعد ہسپتال جا کر اپنی ڈیوٹی شروع کرنی چاہی، مگر D.H.O. صاحب ہنگو نے سائل کو ذاتی طور پر بلا کر کہا کہ

تم فی الحال (فیصلہ عدالت تک) ملازمت کیلئے ہسپتال مت آؤ، البتہ گھر پر موجود رہو، کسی بھی وقت تمہیں ڈیوٹی کیلئے بلا سکتے ہیں۔ اور ماہوار تنخواہ

وصول کیا کرو۔

یہ کہ سائل گذشتہ قریب دو ماہ سے متواتر بائیو میٹرک مشین پر روزانہ حاضری بھی لگا رہا ہوں۔

یہ کہ سائل کو عرصہ قریب تین ماہ بعد، D.H.O. صاحب ہنگو نے محرم الحرام میں ڈیوٹی سرانجام دینے کیلئے بلایا، سائل نے ڈیوٹی سرانجام دی۔ جسکے

بعد سائل کو علم ہوا، کہ سائل کی تنخواہ سے کل مبلغ 96000/- روپے کی کٹوتی کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ سائل کو اس تنخواہ کٹوتی کا کوئی حکم نامہ یا سرکاری

چٹھی حوالہ نہیں کی گئی ہے۔

یہ کہ سائل کو اب سرکاری ملازمت بمقام D.H.Q. ہنگو سے Relieved کیا گیا ہے۔

یہ کہ سائل کا مقدمہ عدالت میں زیر تجویز ہے، اور ابھی تک سائل پر الزام ہے، سائل پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔

یہ کہ سائل عرصہ 25 سال سے زائد محکمہ صحت میں خدمات سرانجام دے رہا ہوں۔

یہ کہ بال بچے دار ہوں، کرایہ کے مکان میں سکونت پذیر ہوں، اور تین سکول جانے والے بچوں سمیت اپنی، زوجہ اور اپنے بچوں کا واحد کفیل ہوں۔

یہ کہ سائل کو کوئی Suspension Letter یا کسی بھی صورت کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے، اور نہ ہی کسی انکوائری

رپورٹ کی نقل فراہم کی گئی ہے۔

یہ کہ سائل کو بغیر کسی گناہ/جرم ثابت کئے، اتنی بڑی رقم سے محروم کیا گیا، اور ساتھ ہی مقامی علاقہ سے بیدخل اور اہلیان علاقہ میں بے عزت اور بدنام

کیا گیا۔ جسکی وجہ سے سائل اور سائل کے اہل خانہ انتہائی ذہنی کوفت/مشکلات میں مبتلا ہیں۔

یہ کہ سائل کی بے گناہی انشاء اللہ عدالت میں ثابت ہو جائیگی۔

استدعا ہے۔ کہ سائل کی تنخواہ سے بلا وجہ اور غیر قانونی تنخواہ کٹوتی روکنے کے احکامات صادر فرمائے جائیں۔ مورخہ 9-Oct-17

سائل/ملیر یا سپر ڈائریکٹر

سید شمس العباس ولد سید غلام ابراہیم سکٹہ گنجانوالے ہنگو حال کوہاٹ

0332-9809001 رابطہ نمبر 14101-0781578-1